

① یزید نے بتایا کہ جنگ کے پار ایک پہاڑ ہے جہاں وہ پھول اگتا ہے جس کی خوشبو سے آنکھوں کی کھوئی ہوئی روشنی لوٹ آتی ہے مگر پہاڑ بہت بلند ہے اور اس پر بڑے شمار جٹانیں ہیں، کاندے میں درجھاڑیاں ہیں اور بڑے بڑے پتھر ہیں جو راستہ روک لیتے ہیں۔ اس پہاڑ پر جانے کے لیے کئی لوگ آئے اور جلتے گئے مگر ایسا کوئی شخص نہیں آیا جو پھول تک پہنچا ہو۔ شاید اسی لیے دنیا میں دکھ اور تکلیف ہے اور انسان روشنی کی تلاش میں ہے۔

The old man told that there is a mountain across the forest where a flower grows whose fragrance restores the lost eye light of the eyes. But the mountain is very high and there are many rocks, thorn bushes and big stones which block the way. Many people came and went to go to this mountain but no one came who reached the flower. Perhaps, that is why there is suffering and pain in the world: and man is in search of light.

② اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی ریتلا میدان تنگ ہو گیا۔ پہاڑوں کا سلسلہ نزدیک ہوتا گیا۔ ہم ایک درے میں سے گزرے۔ اور صبح کی روشنی میں مکہ کی عمارتوں کو دیکھا۔ پھر سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی ہم نے مکہ کے مقدس شہر کی عمارتوں کو دیکھا۔

The next morning, before sunrise, sandy plain narrowed. The range of mountains got closer. We passed through a pass and saw the buildings of Makkah in the pale yellow light.

of morning. Then, with the sunrise we saw
the building of the Holy city of Makkah.

ایک آدمی کی گاٹے تھی اور وہ اس کے دودھ میں پانی ملا تا تھا اور فروخت کرتا تھا
اس وادی میں جہاں پر گاٹے چرتی تھی، سیلاب آ گیا اور یہ اسکی زد میں آ کر
ڈوب گئی۔ اس کا مالک نہایت غمگین ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹے نے اسے کہا "اے
بابا! غم نہ کرو۔ وہ پانی جو ہم اسکے دودھ میں ڈال لائے تھے جمع ہو کر یہاں
آ گیا تھا اور اس نے گاٹے کو غرق کر دیا۔"

A man had a cow and he ~~added~~ ^{used to add} water
his milk and used to sell. A flood came in the
valley where the cow was used to graze and
she drowned under it. Her owner sat
down sadly. His son said to him "Father!
don't be sad". The water that we used
to add in her milk had gathered here
and drowned the cow.